

- English: 1 Drip Tip, 2 E-juice Fill Port, 3 Airflow Slider, 4 USB-C Port, 5 LED Ring, 6 Firing Button. Russian: 1 Капельный наконечник, 2 Электронный сок заливает порт, 3 Управление воздушным потоком, 4 USB-C Порт, 5 Светодиодный Кнопка стрельбы.

Spanish: 1 Punta de goteo, 2 Puerto de llenado de jugo electrónico, 3 Control de flujo de aire, 4 Puerto USB-C, 5 Luz LED, 6 Botón de disparo.

French: 1 Pointe glissante, 2 Port de remplissage E-Juice, 3 Contrôle du flux d'air, 4 Port USB-C, 5 Lumière LED, 6 Bouton de tir.


German: 1 Abtropf Spitze, 2 E-Saft-Füllanschluss, 3 Luftstromkontrolle, 4 USB-C-Port, 5 LED-Licht, 6 Feuertaste.

Italian: 1 Suggerimento a gocciolamento, 2 Porta di riempimento e-juice, 3 Controllo del flusso d'aria, 4 Porta USB-C, 5 Luce a led, 6 Pulsante di accensione.

Korean: 1 액상 주입구, 2 흡입 조절기, 3 C-타입 충전 포트, 4 LED 표시등, 5 발사 버튼.

Arabic: 1 بالنظف تلحم, 2 التحكم في تدفق الهواء, 3 USB-C منفذ, 4 ضوء LED, 5 زر إطلاق النار.

Bahasa: 1 Driptip, 2 Port Pengisian E-juis, 3 Kontrol Aliran Udara, 4 Lampu LED, 5 Tombol Tembak.



English: 1 Unplug the port, 2 Fill with e-juice from the fill port, 3 Plug up the port.

Russian: 1 Отключите порт, 2 Заполните жидкостью для электронных сигарет через заливной порт, 3 Подключите порт.

Spanish: 1 Desconecte el puerto de llenado, 2 tapa el puerto.

French: 1 Débranchez le port de Remplissage avec du jus électronique à partir du port de remplissage, 2 Plug up the port.

German: 1 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, 2 Füllen Sie E-Juice über die Füllöffnung ein, 3 Schließen Sie den Port anthe port.

Italian: 1 Scollega la porta di Riempimento, 2 Collega la porta di riempimento.

Korean: 1 포트를 분리하세요, 2 충전 포트에서 전자 주스를 채웁니다, 3 포트를 연결하세요.

Arabic: 1 اعمل المنفذ, 2 أغلق باب الملحق الإلكتروني من منفذ التوصيل.

Bahasa: 1 Cabut portnya, 2 Isi dengan e-juis dari port pengisian, 3 Pasang portnya.

INSTRUCTIONS

- 1. Turning On Device: When the device is off, press the Firing button 5 times in quick succession to turn on the device. 2. Locking Firing Button/Children Tampering-proof: When the device is on, press the firing button 5 times in quick succession to lock the firing button, but the device still can do auto draw and power adjustment. 3. Turning Off Device: When Button Lock is on, press the Firing button 5 times in quick succession to turn off the device. 4. Adjusting Power: Quickly press the firing button 3 times to switch between Low (Red), Medium (Blue) and High (Green) to adjust the output. It means 3 levels of output power is available. 5. Battery Level: The interactive LED indicates battery level with different colors when you use or charge the device. White=0-30%, Blue=31-69%, Green=70-100%.

Russian: 1. Включение устройства: когда устройство выключено, быстро нажмите кнопку «Firing» 5 раз, чтобы включить устройство. 2. Блокировка кнопки стрельбы/защита от несанкционированного доступа детей: когда устройство включено, быстро нажмите кнопку стрельбы 5 раз подряд, чтобы заблокировать кнопку стрельбы, но устройство по-прежнему может выполнять автоматическое вытягивание и регулировку мощности. 3. Выключение устройства: когда включена блокировка кнопки, быстро нажмите кнопку «Firing» 5 раз, чтобы выключить устройство. Тогда рисование и нажатие кнопки не активируют устройство, пока оно не будет включено снова. 4. Регулировка мощности: быстро переключитесь между низким (красным), средним (синим) и высоким (зеленым) и отрегулируйте выходную мощность. Это означает, что доступно 3 уровня выходной мощности. 5. Уровень заряда батареи: интерактивный светодиодный индикатор указывает уровень заряда батареи разными цветами при использовании или зарядке устройства: белый = 0-30%, синий = 31-69%, зеленый = 70-100%.

Spanish: 1. Encendido del dispositivo: cuando el dispositivo está apagado, presione el botón de disparo 5 veces seguidas para encender el dispositivo.

正

反



- 2. Bloqueo del botón de disparo/a prueba de manipulación infantil: cuando el dispositivo está encendido, presione el botón de disparo 5 veces en rápida sucesión para bloquear el botón de disparo, pero el dispositivo aun puede realizar el ajuste automático de potencia y extracción. 3. Apagar el dispositivo: cuando el bloqueo de botones está activado, presione el botón de disparo 5 veces seguidas para apagar el dispositivo. Luego, dibujar y presionar un botón no activará el dispositivo a menos que se vuelva a encender. 4. Ajuste de potencia: presione rápidamente el botón 3 veces para cambiar entre Baja (Roja), Media (Azul) y Alta (Verde) para ajustar la salida. Significa que hay 3 niveles de potencia de salida disponibles. 5. Nivel de batería: El LED interactivo indica el nivel de batería con diferentes colores cuando usa o carga el dispositivo: Blanco=0-30%, Azul=31-69%, Verde=70-100%.

French: 1. Allumer l'appareil : lorsque l'appareil est éteint, appuyez 5 fois de suite sur le bouton de déclenchement pour allumer l'appareil. 2. Bouton de tir verrouillable/inviolable pour enfants : lorsque l'appareil est allumé, appuyez 5 fois de suite sur le bouton de tir pour verrouiller le bouton de tir, mais l'appareil peut toujours effectuer un tirage automatique et un réglage de la puissance. 3. Éteindre l'appareil : lorsque le verrouillage des boutons est activé, appuyez 5 fois de suite sur le bouton de tir pour éteindre l'appareil. Ensuite, dessiner et appuyer sur un bouton n'activera pas l'appareil à moins qu'il ne soit rallumé.

4. Réglage de la puissance : appuyez rapidement 3 fois sur le bouton pour basculer entre faible (rouge), moyen (bleu) et élevé (vert) pour régler la sortie. Cela signifie que 3 niveaux de puissance de sortie sont disponibles. 5. Niveau de batterie : La LED interactive indique le niveau de batterie avec différentes couleurs lorsque vous utilisez ou chargez l'appareil : Blanc = 0 à 30 %, Bleu = 31 à 69 %, Vert = 70 à 100 %.

German: 1. Gerät einschalten: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Zündtaste 5-mal schnell hintereinander, um das Gerät einzuschalten. 2. Zündtaste sperren/Manipulationsschutz für Kinder: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Zündtaste 5-mal schnell hintereinander, um die Zündtaste zu sperren. Das Gerät kann jedoch weiterhin automatisch ziehen und die Leistung anpassen. 3. Gerät ausschalten: Wenn die Tastensperre aktiviert ist, drücken Sie die Zündtaste 5-mal schnell hintereinander, um das Gerät auszuschalten. Dann wird das Gerät durch Ziehen und Drücken der Taste nicht aktiviert, bis es wieder eingeschaltet wird. 4. Leistung anpassen: Drücken Sie die Taste 3-mal schnell, um zwischen Niedrig (Rot), Mittel (Blau) und hoch (Grün) zu wechseln und die Leistung anzupassen. Das bedeutet, dass 3 Leistungsstufen verfügbar sind. 5. Batteriestand: Die interaktive LED zeigt den Batteriestand in verschiedenen Farben an, wenn Sie das Gerät verwenden oder aufladen: Weiß = 0-30 %, Blau = 31-69 %, Grün = 70-100 %.

Italian: 1. Accensione del dispositivo: quando il dispositivo è spento, premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere il dispositivo. 2. Blocco del pulsante di accensione/A prova di manomissione dei bambini: quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per bloccare il pulsante di accensione, ma il dispositivo può comunque eseguire l'aspirazione automatica e la regolazione della potenza. 3. Spegnimento del dispositivo: quando il blocco pulsante è attivo, premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per spegnere il dispositivo. Quindi disegnando e premendo il pulsante non si attiverà il dispositivo a meno che non venga riacceso. 4. Regolazione della potenza: premere rapidamente il pulsante 3 volte per alternare tra Basso (rosso), Medio (blu) e Alto (verde) per regolare l'uscita. Significa che sono disponibili 3 livelli di potenza di uscita. 5. Livello batteria: il LED interattivo indica il livello della batteria con colori diversi quando si utilizza o si carica il dispositivo: Bianco=0-30%, Blu=31-69%, Verde=70-100%.

Korean: 1. 기기 켜기: 기기가 꺼진 상태에서 라이팅 버튼을 빠르게 5번 누르면 기기가 켜집니다. 2. 발사 버튼 잠금(어린이 조작 방지): 장치 가 켜져 있을 때 발사 버튼을 빠르게 5번 눌러 발사 버튼을 잠그지만 켜지는 어린이 장치를 그리기 및 권력 조절을 수행할 수 있습니다.

- 1. Accensione del dispositivo: quando il dispositivo è spento, premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere il dispositivo. 2. Blocco del pulsante di accensione/A prova di manomissione dei bambini: quando il dispositivo è acceso, premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per bloccare il pulsante di accensione, ma il dispositivo può comunque eseguire l'aspirazione automatica e la regolazione della potenza. 3. Spegnimento del dispositivo: quando il blocco pulsante è attivo, premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per spegnere il dispositivo. Quindi disegnando e premendo il pulsante non si attiverà il dispositivo a meno che non venga riacceso. 4. Regolazione della potenza: premere rapidamente il pulsante 3 volte per alternare tra Basso (rosso), Medio (blu) e Alto (verde) per regolare l'uscita. Significa che sono disponibili 3 livelli di potenza di uscita. 5. Livello batteria: il LED interattivo indica il livello della batteria con colori diversi quando si utilizza o si carica il dispositivo: Bianco=0-30%, Blu=31-69%, Verde=70-100%.

Arabic: 1. تشغيل الجهاز: عند إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل 5 مرات متتالية بسرعة لتشغيل الجهاز. 2. قفل زر التشغيل/مقاومة التلاعب بالأجهزة من قبل الأطفال: عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، اضغط على زر التشغيل 5 مرات في متتالية سريعة لفتح زر التشغيل، ولكن الجهاز لا يزال يمكنه السحب التلقائي وضبط الطاقة. 3. إيقاف تشغيل الجهاز: عندما يكون زر التشغيل قيد التشغيل، اضغط على زر التشغيل 5 مرات في متتالية سريعة لإيقاف تشغيل الجهاز. ثم الرسم والضغط على الزر لن يبدد إلى تشغيل الجهاز إلا إذا تم تشغيله مرة أخرى. 4. ضبط الطاقة: اضغط بسرعة على زر 3 مرات لتبديل بين منخفض (أحمر) ومتوسط (أزرق) وعالي (أخضر) لضبط خرج الطاقة. هذا يعني أن 3 مستويات من طاقة الإخراج متاحة. 5. مستوى البطارية: يشير مؤشر LED التفاعلي إلى مستوى البطارية بألوان مختلفة عند استخدام الجهاز أو شحنه: أبيض = 0-30%، أزرق = 31-69%، أخضر = 70-100%.

Bahasa: 1. Menyalakan Perangkat: Saat perangkat mati, tekan tombol Firing 5 kali berturut-turut dengan cepat untuk menghidupkan perangkat. 2. Mengunci Tombol Pengaktifan/Anti Gangguan Anak-Anak: Saat perangkat menyala, tekan tombol pengaktifan 5 kali berturut-turut dengan cepat untuk mengunci tombol pengaktifan, namun perangkat tetap dapat melakukan penarikan otomatis dan penyesuaian daya. 3. Mematikan Perangkat: Saat Kunci Tombol aktif, tekan tombol Firing 5 kali berturut-turut dengan cepat untuk mematikan perangkat. Kemudian menggambar dan menekan tombol tidak akan mengaktifkan perangkat kecuali dihidupkan kembali. 4. Menyesuaikan Daya: Tekan cepat tombol 3 kali untuk beralih antara Rendah (Merah), Sedang (Biru) dan Tinggi (Hijau) untuk menyesuaikan output. Artinya tersedia 3 tingkat daya keluaran. 5. Level Baterai: LED interaktif menunjukkan level baterai dengan warna berbeda saat menggunakan atau mengisi daya perangkat: Putih=0-30%, Biru=31-69%, Hijau=70-100%.

- 3. 장치 끄기: 버튼 잠금이 켜져 있을 때 발사 버튼을 빠르게 5번 누르면 장치가 꺼집니다. 그런 다음 그림을 그리는 한 장치가 활성화되지 않습니다. 4. 발화 조절: 버튼을 빠르게 3번 눌러 낮음(빨간색), 중간(파란색), 높음(녹색) 사이를 전환하여 출력을 조절합니다. 이는 3가지 레벨의 출력 전력을 사용할 수 있음을 의미합니다. 5. 배터리 수준: 장치를 사용하거나 충전할 때 대화형 LED는 배터리 수준을 다양한 색상으로 나타냅니다. 흰색=0-30%, 파란색=31-69%, 녹색=70-100%.

Arabic: 1. تشغيل الجهاز: عند إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل 5 مرات متتالية بسرعة لتشغيل الجهاز. 2. قفل زر التشغيل/مقاومة التلاعب بالأجهزة من قبل الأطفال: عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، اضغط على زر التشغيل 5 مرات في متتالية سريعة لفتح زر التشغيل، ولكن الجهاز لا يزال يمكنه السحب التلقائي وضبط الطاقة. 3. إيقاف تشغيل الجهاز: عندما يكون زر التشغيل قيد التشغيل، اضغط على زر التشغيل 5 مرات في متتالية سريعة لإيقاف تشغيل الجهاز. ثم الرسم والضغط على الزر لن يبدد إلى تشغيل الجهاز إلا إذا تم تشغيله مرة أخرى. 4. ضبط الطاقة: اضغط بسرعة على زر 3 مرات لتبديل بين منخفض (أحمر) ومتوسط (أزرق) وعالي (أخضر) لضبط خرج الطاقة. هذا يعني أن 3 مستويات من طاقة الإخراج متاحة. 5. مستوى البطارية: يشير مؤشر LED التفاعلي إلى مستوى البطارية بألوان مختلفة عند استخدام الجهاز أو شحنه: أبيض = 0-30%، أزرق = 31-69%، أخضر = 70-100%.

Bahasa: 1. Menghidupkan Perangkat: Saat perangkat mati, tekan tombol Firing 5 kali berturut-turut dengan cepat untuk menghidupkan perangkat. 2. Mengunci Tombol Pengaktifan/Anti Gangguan Anak-Anak: Saat perangkat menyala, tekan tombol pengaktifan 5 kali berturut-turut dengan cepat untuk mengunci tombol pengaktifan, namun perangkat tetap dapat melakukan penarikan otomatis dan penyesuaian daya. 3. Mematikan Perangkat: Saat Kunci Tombol aktif, tekan tombol Firing 5 kali berturut-turut dengan cepat untuk mematikan perangkat. Kemudian menggambar dan menekan tombol tidak akan mengaktifkan perangkat kecuali dihidupkan kembali. 4. Menyesuaikan Daya: Tekan cepat tombol 3 kali untuk beralih antara Rendah (Merah), Sedang (Biru) dan Tinggi (Hijau) untuk menyesuaikan output. Artinya tersedia 3 tingkat daya keluaran. 5. Level Baterai: LED interaktif menunjukkan level baterai dengan warna berbeda saat menggunakan atau mengisi daya perangkat: Putih=0-30%, Biru=31-69%, Hijau=70-100%.

ATTENTION * This Product is not intended for use by pregnant women, children and the age of under 21. * Keep away from fire or extreme heat. * Avoid impact.

CUSTOMER SERVICE Main Page: www.geekvape.com Address: 605, Building 1, Qianhai Kexing Science Park, Labor Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen Phone: (001) 866-985-6876 Email: support@geekvape.com Available Time: 24/7

ANTI-COUNTERFEITING CHECK 1) Go to www.geekvape.com and find PRODUCT VERIFICATION at the bottom of the main page. 2) Scratch the code bar under the label on the box and enter the 12-digit security number in the blank on the webpage. 3) Click 'Go' and a pop-up window shall appear confirming if your product is authentically made.

Do not open and close the drip tip from time to time except for filling e-liquid to avoid oil squeezing problem

技术参数与注意事项 1. 材质: 105哑粉纸 2. 颜色: PANTONE 1505C + K 100, 色差ΔE≤1.00 3. 成品尺寸: 32*80mm (标注尺寸公差: X.±1mm) 4. 工艺处理: 印1专+单黑/双面印刷/封面、封底过哑油/风琴折 5. 注意事项: 裁切边缘须整齐无毛边, 印刷以文件为主, 严格按图纸做货, 不能有色差/爆边/掉粉等现象, [油墨, 胶水(白乳胶、热熔胶)]需要符合RoHS要求

深圳市基克纳科技有限公司 Geekvape Technology co,LTD	产品型号	GS0278	绘图/日期	魏鹏 2024/7/15							
	包材名称	WENAX S3 Evo 说明书	审核/日期								
图纸与技术规格说明归基克纳公司所有,未得到基克纳公司的正式书面许可,禁止传播、转载或使用于其他任何途径	包材图号	GS0278-P-58-A1	核准/日期								
纸张	A3	单位	mm	比例	1:1	版本		页码	01	视角	